



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

PRESS RELEASE

For immediate release

December 08, 2025

SECP Implements Motor Insurance Repository to Strengthen Enforcement of Mandatory Motor Third-Party Insurance

Islamabad, December 08, 2025 – The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has issued a circular directing all registered non-life insurers, including general takaful operators engaged in underwriting motor vehicle insurance, to participate in the Motor Insurance Repository (MIR).

The MIR is a centralized electronic database established under a Memorandum of Understanding between insurance companies, takaful operators, and the Central Depository Company (CDC). It enables the secure storage, validation, and accessibility of motor insurance policies and claims data. Insurers underwriting motor vehicle insurance are now required to sign a Service Level Agreement (SLA) with the CDC within 60 days and share complete and accurate policy data in accordance with the SLA. This data may be shared with relevant federal and provincial authorities for policy validation, while maintaining strict confidentiality and security requirements.

This regulatory measure is a key step toward strengthening the enforcement of mandatory motor third-party insurance across Pakistan. A centralized and validated data repository will allow authorities to verify insurance coverage efficiently, addressing significant gaps in compliance.

The SECP remains committed to promoting digital transformation, strengthening compliance, safeguarding public interest, and enhancing the integrity and efficiency of Pakistan's insurance ecosystem.

ایس ای سی پی نے موثر تھرڈ پارٹی انشورنس کے نفاذ کو مضبوط بنانے کے لیے موثر انشورنس ریپوزٹری نافذ کر دی۔

اسلام آباد، 8 دسمبر: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ایک سرکلر جاری کیا ہے جس میں تمام رجسٹرڈ نان لائف انشورنس کمپنیوں، بشمول جنرل تکافل آپریٹرز جو موثر وہیکل انشورنس فراہم کرتے ہیں، کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ موثر انشورنس ریپوزٹری (MIR) میں شمولیت اختیار کریں۔

ایم آئی آر (MIR) ایک مرکزی الیکٹرانک ڈیٹا بیس ہے جو انشورنس کمپنیوں، تکافل آپریٹرز اور سینٹرل ڈپارٹری کمپنی (CDC) کے مابین ہونے والے ایم او یو (MOU) کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ اس

کا مقصد موثر انشورنس پالیسیوں اور کلیمز کے ڈیٹا کو محفوظ طریقے سے ذخیرہ کرنا، تصدیق کرنا اور ضرورت کے مطابق قابل رسائی بنانا ہے۔

موثر ویبکل انشورنس فرائم کرنے والی کمپنیوں کے لیے اب لازم ہے کہ وہ 60 دن کے اندر CDC کے ساتھ سروس لیول ایگریمنٹ (SLA) پر دستخط کریں اور اس کے مطابق مکمل اور درست پالیسی ڈیٹا فرائم کریں۔ یہ ڈیٹا پالیسی کی تصدیق کے لیے متعلقہ وفاqi اور صوبائی حکام کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے، تاہم اس کی مکمل رازداری اور تحفظ کو یقینی بنانا ضروری ہے۔

یہ ریگولیٹری اقدام پاکستان بھر میں لازمی موثر تھرڈ پارٹی انشورنس کے مؤثر نفاذ کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ مرکزی اور تصدیق شدہ ڈیٹا ریپوزٹری کے قیام سے حکام کو انشورنس کوریج کی تیزی اور درستگی سے تصدیق کرنے میں مدد ملے گی، جس سے عدم تعامل کے بڑے مسائل کو موثر طور پر دور کیا جا سکے گا۔ ایس ای سی پی ڈیجیٹل تبدیلی کے فروغ، تعامل کو مضبوط بنانے، عوامی مفاد کے تحفظ اور پاکستان کے انشورنس نظام کی شفافیت اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے پر عزم ہے۔